## Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale " " di



SICUREZZA ALIME نے کی حفاظت			Ai genitori/Agli affidatari بجانب والدين / سرپرست
		del، ب علم	l'alunn: طالـ
			sezione سیکشنک
scolastica se il p necessaria una die firmato. کو مطلع کریں کہ آپ	roprio figlio deve ta speciale. Si pre خاطر اس تعلیمی ادارے ھانے کی ضرورت ہے۔	osservare particolari ad ga pertanto di compilare بارے میں ایک بہتر حفاظت کی کا استعمال اور کسی مخصوص ک پر دستخط کرنے کے بعد اسے وا	e di segnalare a questa istituzione ccortezze alimentari che rendano il modello che segue e restituirlo طالب علم کی نفسانی و جسمانی پرورش کے کے بچے کیلئے خاص احتیاط کے ساتھ غذا کی جاتی ہے کہ درج ذیل فارم کو پر کریں او e scolastico
		<u> </u>	سكول بي
II sottoscritto/a زیر دستخطی		cognome e nome خاندانی نام اور نام	
in qualità di بحثیت	padre والد 🗖	madre والده □	tutore سرپرست □
dell'alunno/a طالب علم	cognome e nome خاندانی نام اور نام	frequentante la کلاس میں پڑ ھتا ہے	
di questo Istituto, اس تعلیمی ادار ہے کی	هاندانی نام اور نام	DICHIARA	
		بیان کیا جاتا ہے	
	io/la propria figlio/ئ بیٹا / بیٹی تمام غذائیں کھ	a può nutrirsi con tutti gli a کہ میرا ب	alimenti:
	io/la propria figlio/a ج ذیل غذائیں نہیں کھا س	a non può nutrirsi con i seg کہ میرا بیٹا/بیٹی در 	uenti alimenti:

## Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale " " di



per altri motivi    بیگر وجوبات کے تحت	Per intolleranze o allergia alimentare o malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, ecc.) o obesità come da certificato medico allegato وحد.) o obesità come da certificato medico allegato خوراک کی غیر رواداری یا غذائی الرجی یا میڈابولک یعنی استحالی بیماری ( نیابیطس ـ مرض شکمـ فیوزم □ وغیره) یا موٹاپا جیسا کہ منسلکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے مطابق
Rertanto, durante la distribuzione del pasto mensa,  البذا کھائے کی تقسیم کے دوران  CHIEDE  مطالبہ  مطالبہ کیا جاتا ہے کی تقسیم کے دوران  CHIEDE  مطالبہ کیا جاتا ہے کہ، بچے کو پر بیزی کھائے کے ساتھ ایک مخصوص غذا کا استعمال کر ایا جاتے  مطالبہ کیا جاتا ہے کہ، بچے کو پر بیزی کھائے کے ساتھ ایک مخصوص غذا کا استعمال کر ایا جاتے  INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  (D. L. vo 30 giugno 2003, n. 196)  Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L. vo 30 giugno 2003, n. 196.  ذاتی کو انف اور اعلامیہ جاری کر نے والے کے حقوق کے متعلق معلومات (یا دسته کی کے متعلق معلومات (یا دسته کی سورت میں خذا کے متعلق معلومات ایک مخصوص غذا کیا جاتا ہے۔  المون کو کیا ، نیز فراہم کرد اعداد و شمار اور کو انف کا قانونی ڈگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 2016 کے تحت تحفظ نہیں سکے گا ، نیز فراہم کرد اعداد و شمار اور کو انف کا قانونی ڈگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 2016 کے تحت تحفظ الیم کئیا جاتا ہے۔  Luogo e data  Luogo e data  Luogo e data	
CHIEDE مطالبہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تقسیم کے دوران، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ، بچے کو پربیزی کہانے کے ساتھ ایک مخصوص غذا کا استعمال کرایا جائے۔  Luogo e data مطالبہ کیا جاتا ہے کہ، بچے کو پربیزی کہانے کے ساتھ ایک مخصوص غذا کا استعمال کرایا جائے۔  INFORMATIVA SUI DATI PERSONALIE SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196.  ذاتی کو انف اور را علامیہ جاری کرنے والے کے حقوق کے متعلق معلومات (فاونی ڈگری مؤرخہ 30 جون 2003 ، نمبر 196 کے نمب میں خزا کے متعلق عملار آمد کی خاطر فراہم کرتے جارہے ہیں۔ ان کی عدم فراہمی کی صورت میں غذا کے متعلق عملار آمد کی خاطر فراہم کرتے وار ہے ہیں۔ ان کی عدم فراہمی کی صورت میں غذا کے متعلق عملار آمد کی خاطر فراہم کردہ اعداد و شمار اور کو انف کا فانونی ڈگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 کے تحت تحفظ نہیں سکے گا ، نیز فراہم کردہ اعداد و شمار اور کو انف کا فانونی ڈگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 کے تحت تحفظ Luogo e data	
مطالبہ  che sia somministrata al proprio figlio la dieta speciale con esclusione degli alimenti:  مطالبہ کیا جاتا ہے کہ، بچے کر پر بیزی کھانے کے ساتھ ایک مخصوص غذا کا استعمال کرایا جائے۔  Luogo e data  مقام اور تاریخ  Firma	
Luogo e data  Luogo e data  Firma  — مقام اور تاریخ  INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  (D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196.  (اقانونی تُگری مورخہ 32 حقوق کے متعلق معلومات الله معلى داتى كوائف اور العالميہ جاری كرنے والے كے حقوق كے متعلق معلى أمدير والے كے حقوق كے متعلق معلى أمدير والے كے حقوق كے متعلق معلى أمدير داور كوائف كا قانونی تُگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ كيكيا عمل درآمد كي خاطر فراہم كنے جا رہے ہیں۔ ان كی عدم فراہمی كی صورت میں غذا كے متعلق عملىرآمد كرانا ممكن نہيں سكے گا ، نیز فراہم كردہ اعداد و شمار اور كوائف كا قانونی تُگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ Luogo e data  Luogo e data  Firma  — مقام و تاریخ  Luogo e data  Firma  — مقام و تاریخ	
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  (D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196.  ذاتى كوائف أور اعلاميہ جارى كرنے والے كے حقوق كے متعلق معلومات (قانونى تُكُرى مؤرخہ30 جون 2003 ، نمبر 196)  زیر دستخطی تسلیم كرتا ہے، كہ اس فارم میں درج ذاتی كوائف أور /یا منسلک شده دستاویزات كا مقصد ایک مخصوص غذا كيائے عمل درآمد كى خاطر فراہم كئے جا رہے ہیں۔ ان كی عدم فراہمی كی صورت میں غذا كے متعلق عملدرآمد كرانا ممكن نہیں سكے گا ، نیز فراہم كرده اعداد و شمار أور كوائف كا قانونی تُكُری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ لعبوں 2004 كے اللہ علیا جاتا ہے۔  Luogo e data  Luogo e data  Firma	
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  (D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196.  ذاتى كوائف أور اعلاميہ جارى كرنے والے كے حقوق كے متعلق معلومات (قانونى تُكُرى مؤرخہ30 جون 2003) نمبر 196 )  زير دستخطى تسليم كرتا ہے، كہ اس فارم ميں درج ذاتى كوائف أور/يا منسلك شده دستاويزات كا مقصد ايك مخصوص غذا كيائے عمل درآمد كى خاطر فراہم كئے جا رہے ہيں۔ ان كى عدم فراہمى كى صورت ميں غذا كے متعلق عملدرآمد كرانا ممكن نہيں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار أور كوائف كا قانونى تُكُرى مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ ليوري مقام و تاريخ Luogo e data	
(D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196) Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196.  ذاتی کوائف اور اعلامیہ جاری کرنے والے کے حقوق کے متعلق معلومات (قانونی ڈگری مؤرخہ300 جون 2003 ، نمبر 196 ) نمبر 196 ، نمبر 196 ، نمبر 2003 ، نمبر 196 کے تحت تحفظ کیلئے عمل درآمد کی خاطر فراہم کئے جا رہے ہیں۔ ان کی عدم فراہمی کی صورت میں غذا کے متعلق عملدرآمد کرانا ممکن نہیں سکے گا ، نیز فراہم کردہ اعداد و شمار اور کوائف کا قانونی ڈگری مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 کے تحت تحفظ Luogo e data  Luogo e data  Firma  Firma	
	(D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196) Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196.  ذاتى كوائف اور اعلاميہ جارى كرنے والے كے حقوق كے متعلق معلومات (قانونى ڈگرى مؤرخہ300 جون 2003 ، نمبر 196 ) نمبر 196 ، نمبر 196 ، نمبر 2003 ، نمبر 2003 ، نمبر كي حدم فراہمى كى صورت ميں غذا كے متعلق عملدرآمد كرانا ممكن نہيں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار اور كوائف كا قانونى ڈگرى مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ ليوں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار اور كوائف كا قانونى ڈگرى مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ ليوں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار اور كوائف كا قانونى ڈگرى مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ ليوں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار اور كوائف كا قانونى ڈگرى مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ ليوں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار اور كوائف كا قانونى ڈگرى مؤرخہ 30 جون 2003 نمبر 196 كے تحت تحفظ ليوں سكے گا ، نيز فراہم كرده اعداد و شمار اور كوائف كا قانونى ڈگرى مؤرخہ 30 جون 2003 ليوں — مقام و تاريخ